

Ur



بخط ابوالحسن مظہر

نگارش آسان

دُعَاءِ کَمِیل

دعاء کمیل

دعاء کمیل اردو ترجمہ کے ساتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بنام خدائے رحمن و رحیم



۳
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

تیری رحمت کے ذریعے جوہر شی پر محیط ہے





وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ

تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شی کو زیر نگین کیا

وَخَضَعَ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ

اور اس کے سامنے ہر شی جھکی ہوئی



۵
وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ * وَبَجَبْرُوتِكَ النَّبِي

اور ہر شئی زیر ہے، اور تیرے جبروت

غَلَبَتْ بِهَا كُلُّ شَيْءٍ *

کے ذریعے جس سے توہر شئی پر غالب ہے



وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ

تیری عزت کے ذریعے جسکے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں

وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ

تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا



وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَا كُلَّ شَيْءٍ

تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے

وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ

تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گی



۸

وَبِاسْمَائِكَ الَّتِي

اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے

مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ

ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پُر کر رکھا ہے



۹
وَبِعِلْمِكَ الَّذِي

تیرے علم کے

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ❁

ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے



وَبِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي

اور تیری ذات کے نور کے

أَضَاءَ لَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ

ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے



يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ ❁ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ

اے نور اے قدوس، اے اولین میں سب سے اول

وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ ❁

اور اے آخرین میں سب سے آخر



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي

اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے

تَهْتِكُ الْعِصَمَ

جو پردہ فاش کرتے ہیں



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي

خدایا! میرے وہ گناہ معاف کر دے

تَنْزِلُ النَّقَمِ

جن سے عذاب نازل ہوتا ہے



اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوْبَ الَّتِي

خدايا ميرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں

تَغِيْرُ النَّعْمَ

زائل ہوتی ہیں



اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِي

اے معبود! میرے وہ گناہ معاف فرما

تَحْبِسُ الدُّعَاءَ

جو دعا کو روک لیتے ہیں



اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِي الذُّنُوْبَ الَّتِي

اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے

تُنَزِّلُ الْبَلَاءَ

جن سے بلائیں نازل ہوتی ہے



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي

اے معبود! میرے وہ گناہ بخش دے

تَقْطَعُ الرَّجَاءَ ❁

جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ

اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے

وَكُلِّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا

اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے



اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ

اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں، اور تیری ذات کو

وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ

تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں تیرے جود کے واسطے سے

وَاسْأَلْكَ بِجُودِكَ

سوال کرتا ہوں

أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ

کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما



وَأَنْ تُوْزِعَ عَلَيَّ شُكْرَكَ

اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں

وَأَنْ تُلْهَمَنِي ذِكْرَكَ

اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں

سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ

جھکے ہوئے گرے ہوئے ڈرے ہوئے



وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے

مُتَوَاضِعًا

والا بنا دے



اللَّهُمَّ وَاسْأَلْكَ

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ ❁

اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو



وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشُّدَايِدِ حَاجَتَهُ ۝

سختیوں میں پڑا ہو اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں

وَعَظَمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتَهُ ۝

اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں



اللَّهُمَّ عَظِيمَ سُلْطَانِكَ

اے اللہ تیری عظیم سلطنت

وَعَلَا مَكَانِكَ

اور تیرا مقام بلند ہے



وَ خَفِيَ مَكْرُكَ وَ ظَهَرَ أَمْرُكَ

تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے

وَ غَلَبَ قَهْرُكَ وَ جَرَتْ قُدْرَتُكَ

تیرا قہر غالب تیری قدرت کارگر ہے



وَلَا يُمَكِّنُ الْفِرَارُ

اور تیری حکومت سے

مِنْ حُكُومَتِكَ ❁

فرار ممکن نہیں



اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرًا



خداوندا میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا

وَلَا لِقَبَائِحِي سَاتِرًا



میری برائیوں کو چھپانے والا



وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ

اور میرے برے عمل کو نیکی میں

بِالْحُسْنِ مُبَدَّلًا غَيْرَكَ ❁

بدل دینے والا ہو



لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے



ظَلَمْتُ نَفْسِي

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا

وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي

اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی



وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي

اور میں نے تیری قدیم یاد آوری

وَمِنْكَ عَلَيَّ

اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے



اللَّهُمَّ مَوْلَايَ

اے اللہ میرے مولا

کَمِ مِنْ قَبِيحِ سَتْرَتِهِ وَ

کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی



وَ كُمْ مِّنْ فَادِحٍ مِّنَ الْبُلَاءِ

اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے

اَقْلَتَهُ  و

مجھے بچالیا



وَكَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ 

کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں

وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهِ دَفَعْتَهُ 

اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کیں تو نے



وَکَمِّ مِنْ ثَنَاءِ جَمِیلِ

میری کتنی ہی تعریفیں عام کیں

لَسْتُ أَهْلًا لَهُ وَنَشْرَتَهُ ❁

جن کا میں ہر گز اہل نہ تھا



اللَّهُمَّ عَظْمَ بِلَائِي

اے معبود! میری مصیبت عظیم ہے

وَأَفْرَطَ بِي سَوْءَ حَالِي

بد حالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے



وَقَصْرَتْ (قَصْرَتْ) بِي أَعْمَالِي

میرے اعمال بہت کم ہیں،

وَقَعَدَتِي بِي أَغْلَابِي

گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے



وَ حَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي

لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی

بَعْدُ أَمْالِي (أَمْالِي) ❁

بنا رکھا ہے



وَاخَذَ عَنِّي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا

دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم

وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا (بِخِيَانَتِهَا) وَمِطَالِي

اور حیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے



يَا سَيِّدِي

اے میرے آقا میں

فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ

تیری عزت کا واسطہ دے



أَنَّ لَا يَجُوبُ عَنْكَ دُعَائِي

کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی و بد کرداری

سُوءُ عَمَلِي وَفِعَالِي ❁

میری دعا کو تجھ سے نہ روکے



وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ

اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے

عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ❁

جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے



وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ

اور مجھے اس پر سزا دینے

عَلَى مَا عَمِلْتَهُ فِي خَلَوَاتِي

میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت



مِنْ سُوءِ فِعْلِي

میں غلط کام کیا

وَإِسَاءَتِي

برائی کی ہمیشہ



وَدَوَامِ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي

کوٹاہی کی اس میں میری نادانی،

وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي

خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے



وَ كُنِ اللّٰهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي

اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت

فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ (فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا) رَءُوفًا

کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ



وَعَلَىٰ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا

اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما

إِلَهِي وَرَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ

میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے



اَسْأَلُهُ وَكَشَفَ ضُرِّي

جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے

وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي

اور میرے معاملے پر نظر رکھ



إِلَهِي وَمَوْلَايَ أَجْرِيَتَ عَلَيَّ

میرے معبود اور میرے مولا تو نے میرے لیے

حُكْمًا اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي

حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا



وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ

اور میں دشمن کی

مِنْ تَزْيِيرِ عَدُوِّي ❁

فریب کاری سے بچ نہ سکا



فَغَرَّبَنِي بِمَا أَهْوَىٰ

اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا

وَأَسْعَدَهُ ۖ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ الْقَضَاءُ ۗ

اور وقت نے اسکا ساتھ دیا



فَتَجَاوَزَتْ بِمَا جَرَىٰ عَلَيَّ

پس تو نے جو حکم صادر کیا

مِنْ ذَلِكَ بَعْضٌ (مِنْ نَقْضِ) حَدُودِكَ ❁

میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا



وَ خَالَفْتُ بَعْضَ أَوْامِرِكَ

اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی

فَلَكَ الْحَمْدُ (الْحُجَّةُ) عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ

پس اس معاملہ میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجالانا



وَلَا حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ

اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے

قَضَاؤُكَ وَالزَّمَنِي حُكْمُكَ وَبَلَاؤُكَ

اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے



وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي

اور اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جب کہ میں نے کوتاہی کی

وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي

اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے



مُعْتَذِرًا نَادِمًا ❁ مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلًا

میں عذر خواہ و پشیمان، ہارا ہوا، معافی کا طالب،

❁ مُسْتَغْفِرًا مُنِيبًا ❁

بخشش کا سوالی



مُقِرًّا مَذْعِنًا مُعْتَرِفًا



تائب گناہوں کا اقراری، سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے ہوا

لَا أَجِدُ مَفْرًا مِمَّا كَانَتْ مِنِّي



نہ اس سے فرار کی راہ ہے



وَلَا مَفْزَعًا اَتَّوَجَّهُ اِلَيْهِ فِي اَمْرِي

نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اسکی طرف توجہ کروں سوائے اسکے

غَيْرِ قَبُولِكَ عُذْرِي

کہ تو میرا عذر قبول کر



وَإِدْخَالِكَ إِيَّايَ

اور مجھے اپنی

فِي سَعَةٍ مِنْ رَحْمَتِكَ

وسیع تر رحمت میں داخل کر لے



اللَّهُمَّ (اللّٰهِي) فَاقْبِلْ عُدْرِي

اے معبود! بس میرا عذر قبول فرما

وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي

میری سخت تکلیف پر رحم کر



وَفُكِّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي

اور بھاری مشکل سے رہائی دے

يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي

اے پروردگار میرے کمزور بدن،



يَا رَبِّ اَرْحَمِ

اے پروردگار

ضَعْفَ بَدَنِي

میرے کمزور بدن،



وَرِقَّةٌ جِلْدِيٌّ

نازک جلد

وَرِدْقَةٌ عَظْمِيٌّ

اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما



يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي

اے وہ ذات جس نے میری خلقت ذکر،

وَتَرْبِيَّتِي وَبِرِّي وَتَغْذِيَّتِي

پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا



هَبْنِي لِابْتِدَاءِ كَرَمِكَ

اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے

وَسَالِفِ بَرِّكَ بِي

تحت مجھے معاف فرما



يَا اِلٰهِيَّ وَ سَيِّدِيَّ وَ رَبِّيَّ

اے میرے معبود میرے آقا اور میرے رب کیا میں یہ سمجھوں کہ

اَتْرَاكَ مُعَذِّبِيَّ بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ

تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں

وَبَعْدَ مَا انطوى

اسکے ساتھ میرا دل

عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ ❁

تیری معرفت سے لبریز ہے



وَلَهَجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ

اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے

وَأَعْتَقَدَهُ وَضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ

میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے



وَبَعْدَ صِدْقٍ اعْتِرَافِيٍّ وَدُعَائِيٍّ

اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری

خَاضِعًا لِرَبُّوبِيَّتِكَ

عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا



هَيَّاهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ

ہرگز نہیں! تو بلند ہے

مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مِنْ رَبِّيْتِهِ

اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے



أَوْ تَبْعِدَ (تُبْعِدَ) مِنْ أَدْنَيْتَهُ وَ

یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے

أَوْ تُشْرِدَ مِنْ أَوْيْتِهِ وَ

یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے



أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ و

یا جسکی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے

وَرَحِمَتَهُ و 

حوالے کر دے



وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي

اے کاش میں جانتا اے میرے آقا

وَاللهي وَمَوْلَايَ

میرے معبود! اور میرے مولا کہ



أَتَسَلِّطُ النَّارَ عَلَىٰ وُجُوهِ

کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو

خَرَّتْ لِعَظْمَتِكَ سَاجِدَةً

تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں



وَعَلَى السُّنِّ نَطَقْتُ بِتَوْحِيدِكَ

اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں

صَادِقَةٌ وَبِشُكْرِكَ مَا دِحَةٌ

اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں



وَعَلَىٰ قُلُوبِهَا نَظَرَ

اور ان دلوں کو جو تحقیق کیساتھ

بِالْهَيْتِكَ مُحَقَّقَةٌ

تجھے معبود مانتے ہیں



وَ عَلَىٰ ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِّنَ الْعِلْمِ بِكَ

اور انکے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے

حَتَّىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً

خائف ہیں تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟



وَ عَلَىٰ جَوَارِحِ سَعَتٍ

اور ان اعضاء کو جو فرمانبرداری سے

إِلَىٰ أَوْطَانٍ تَعْبُدُكَ طَائِعَةً

تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں



وَ أَشَارَتْ بِإِسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً

اور یقین کے ساتھ تیری (مغفرت کے طالب ہیں) تو انہیں آگ میں ڈالے

مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ

تیری ذات سے ایسا گمان نہیں،



وَلَا أُخْبِرُنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ

نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے

يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ

اے کریم اے پروردگار!



وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ

دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے

مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا

مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے



وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىٰ

اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں (میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا)

أَهْلِهَا عَلَىٰ أَنْ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ

اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ



قَلِيلٌ مَّا كُنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا قَبْلَ هَٰذَا وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَأَسَفْتُمْ لَسَفْتُمْ وَتَوَلَّوْا وَكُنْتُمْ كَافِرِينَ

اور بقاء کا وقت تھوڑا

قَصِيرٌ مَّا دُمْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دُمْتُمْ بِأَعْيُنِنَا قَبْلَ هَٰذَا وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَأَسَفْتُمْ لَسَفْتُمْ وَتَوَلَّوْا وَكُنْتُمْ كَافِرِينَ

اور مدت کوتاہ ہے



فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ

تو پھر کیونکر میں آخرت کی مشکلوں

وَجَلِيلٍ (حُلُولٍ) وَقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا

کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں



وَهُوَ بَلَاءٌ تَطْوِيلُ مَدَّتِهِ وَ

اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جنکی مدت طولانی،

وَيَدْوَمُ مَقَامَهُ وَ

اقامت دائمی ہے



وَلَا يَخْفَىٰ عَنِ أَهْلِهِ

اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہو گی

لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ غَضَبِكَ

اس لیے کہ وہ تیرے غضب تیرے انتقام



وَإِنِّي قَامِكُ وَ سَخَطِكُ ❁ وَ هَذَا

اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں

❁ مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

اور یہ وہ سختیاں ہیں جنکے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے

يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ بِي (البي)

تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے

وَ أَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ ❁

گی جبکہ میں تیرا کمزور



الذليل الحقيق المسكين

پست، بے حیثیت، بے مایہ

المستكين

اور بے بس بندہ ہوں



يَا اِلٰهِي وَرَبِّي

اے میرے آقا

وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ ❁

اور میرے مولا!



لَا يَلِيَّ الْأُمُورَ إِلَّا إِلَهٌ أَشْكُو

میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں

وَلِمَا مِنْهَا أَضِجُ وَأَبْكِي

اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں؟



لَا يَمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ

دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے

أَمْ لِيَطُولِ الْبَلَاءُ وَ مَدَّتِهِ

یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کیلئے



فَلَمَّا صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ

پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب

مَعَ أَعْدَائِكَ

میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا



وَجَمَعْتَ بَيْنِي

اور مجھے اور اپنے

وَبَيْنَ أَهْلِ بِلَائِكَ ❁

عذابوں کو اکٹھا کر دیا



وَفَرَّقْتَ بَيْنِي

اور میرے

وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ ❁

اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی



فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي

تو اے میرے معبود میرے آقا

وَمَوْلَايَ وَ رَبِّي *

میرے مولا اور میرے رب



صَبْرْتُ عَلَىٰ عَذَابِي

تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں

فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ

تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟



وَهَبْنِي يَا اِلٰهِي

اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی

صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ

تپش پر صبر کر ہی لیا



فَكَيْفَ أَصْبِرُ

تو تیرے کرم سے

عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ

کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا



أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ

یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جب کہ میں

وَرَجَائِي عَفْوِكَ

تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں



فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ

پس قسم ہے تیری عزت کی اے میرے آقا اور مولا

أُقْسِمُ صَادِقًا لِّئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقًا

سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی

لَا ضِجْنَ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا

تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا

ضَجِيجَ الْأُمْلِيْنَ (الْأَلْمِيْنَ) ❁

آرزو مندوں کی طرح



وَلَا صُرُخَنَّ إِلَيْكَ

اور تیرے سامنے نالہ کروں گا

صُرَاخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ

جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں



وَلَا بَكِيْنَ عَلَيْكَ

تیرے فراق میں یوں گریہ کروں گا جیسے ناامید ہونے

بُكَاءِ الْفَاقِدِيْنَ ❁

والے گریہ کرتے ہیں



وَلَا نَادِيَنَّكَ آيِنَ كُنْتَ

اور تجھے پکاروں گا کہاں ہے تو

يَا وَليُّ الْمُؤْمِنِينَ

اے مومنوں کے مددگار



يَا غَايَةَ اٰمَالِ الْعَارِفِينَ

اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے بچاروں کی داد رسی کرنے والے



یا حَبِيبَ قُلُوْبِ الصّٰدِقِیْنَ

اے سچے لوگوں کے دوست

وِیَا اِلٰهَ الْعٰلَمِیْنَ

اور اے عالمین کے معبود کیا میں تجھے دیکھتا ہوں



أَفْتُرَاكَ سُبْحَانَكَ

تو پاک ہے اس سے

يَا إِلَهِي وَبِحَمْدِكَ

اے میرے اللہ اپنی حمد کے



تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ

ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے

سُجِنَ (يُسْجَنُ) فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ ❁

جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے



وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا

اپنی برائی کے باعث عذاب

بِمَعْصِيَتِهِ

کا ذائقہ چکھ رہا ہے



وَحَبِيسَ بَيْنَ اطْبَاقِهَا

اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے

بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ

طبقتوں کے نیچوں نیچ بند ہے



وَهُوَ يَضِجُ إِلَيْكَ

وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے

ضَجِيحٌ مُؤَمِّلٌ لِرَحْمَتِكَ

تیری رحمت کے امیدوار کی طرح



وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ

اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے

وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرَبُوبِيَّتِكَ

اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے



يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ

اے میرے مولا! پس کس طرح وہ عذاب

وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ

میں رہے گا جب کہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے



أَمْ كَيْفَ تُوَلِّمُهُ النَّارُ

یا پھر آگ کیونکر اسے تکلیف دے

وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ

گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے



أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ وَ لَهِيئُهَا (لَهَبُهَا) وَأَنْتَ

یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اسکی

تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَرَى مَكَانَهُ ❁

آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے



أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا

یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں

وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ 

گے جبکہ تو اسکی ناتوانی کو جانتا ہے



أَمْ كَيْفَ يَتَّقِلُّ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا

یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے

وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ

گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے



أَمْ كَيْفَ تَزَجُورُهُ وَزَبَانِيَّتُهَا

یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں

وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبِّهٗ ۝

گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے اے میرے رب



أَمْ كَيْفَ يَرْجُوا فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ

یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو

مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ وَ (فَتَتْرُكُهُ) فِيهَا

اور تو اسے جہنم میں رہنے دے



هَيَّاهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ

ہرگز نہیں! تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا

وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ

نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے



وَلَا مُشَبِّهٍ لِمَا عَامَلْتَهُ بِهٍ الْمُؤَحِّدِينَ

نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان

مِنْ بَرِّكَ وَإِحْسَانِكَ

و کرم سے مشابہ ہے



فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْلَا مَا حَاكَمْتَ بِهِ

پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو

مِنْ تَعْذِيبِ جَا حِدِيلَ

آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا



وَقَضَيْتَ بِهِ مِنَ الْخُلَادِ مُعَانِدِيكَ

اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا

جَمَعَلْتُ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا

تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا



وَمَا كَانَ (كَانَتْ) لِأَحَدٍ فِيهَا مَقْرَأً

اور کسی کو بھی آگ میں جگہ

وَلَا مُقَامًا (مَقَامًا) ❁

اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا



لِكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ

لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ

أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ

جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا



مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

جنوں اور انسانوں میں سے

وَأَنْ تُوَلَّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ

اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے





وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا

اور تو بڑی تعریف والا ہے تو نے فضل



وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكْرِمًا

و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ



﴿ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا

کیا وہ شخص جو مومن ہے

﴿ كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۳۲﴾

وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں



إِلَهِي وَسَيِّدِي

میرے معبود میرے آقا!

فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا

میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا



وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا

اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی

وَحَاكَمْتَهَا

و محکم بنایا



وَ غَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرِيَّتَهَا

اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے

أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

اسکے واسطے سے سوال کرتا ہوں بخش دے اس شب میں



وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ

اور اس ساعت میں

كُلُّ جُرْمٍ اَجْرَمْتَهُ

میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے



وَكُلُّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتَهُ و

تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے

وَكُلُّ قَبِيحٍ اَسْرَرْتَهُ و

وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں



وَكُلٌّ جَهْلٍ عَمِلْتَهُ وَكَتَمْتَهُ

جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کیں ہیں

أَوْ أَعْلَنْتَهُ وَأَخْفَيْتَهُ وَأَوْ أَظْهَرْتَهُ

علی الاعلان یا پوشیدہ، رکھی ہوں یا ظاہر کیں ہیں



وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ

اور میری بدیاں

أَمَرْتُ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ

جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے



الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ

جنہیں تو نے مقرر کیا ہے

بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنْهُ

کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کریں



وَجَعَلْتَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَيَّ

اور ان کو میرے اعضاء کے

مَع جَوَارِحِي ❁

ساتھ مجھ پر گواہ بنایا



وَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ

اور انکے علاوہ خود تو بھی

مِنْ وَرَائِهِمْ

مجھ پر ناظر



وَالشَّاهِدِ

اور اس بات کا گواہ ہے

لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ

جو ان سے پوشیدہ ہے



وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ ۝

حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا

وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ ۝

اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا وہ معاف فرما



وَأَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي

اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ  (تَنْزِلَهُ وَ)

ہر اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا



أَوْ إِحْسَانٍ فَضْلَتَهُ (تَفْضِيلُهُ وَ)

یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا

أَوْ بَرِّ نَشْرَتَهُ (تَنْشُرُهُ وَ)

یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلا




أَوْ رِزْقٍ بَسْطَتْهُ وَ (تَبَسُّطُهُ وَ) ❁

یا رزق میں جسے تو نے وسیع کیا

أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ وَ ❁ أَوْ خَطَا تَسْتُرُهُ وَ ❁

یا گناہ میں جسے تو معاف نے کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا



یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ 

اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب


یا اِلهی و سَیِّدِی و مَوْلایِ

اے میرے معبود میرے آقا اور میرے مولا



وَمَا لِكَ رِفِي 

اور میری جان کے مالک

يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي 

اے وہ جسکے ہاتھ میں میری لگام ہے





يَا عَلِيمًا بِضُرِّي (بِفَقْرِي) وَمَسْكَنتِي

اے میری تنگی و بے چارگی سے واقف



يَا خَيْرًا بِفَقْرِي وَفَاقَتِي

اے میری ناداری و تنگدستی سے باخبر



يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ❁

اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب

❁ اَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ

میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی،



وَاعْظِمِ صِفَاتِكَ

تیری عظیم صفات

وَاسْمَائِكَ

اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں



أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنْ (فِي) اللَّيْلِ

کہ میرے رات دن کے

وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً ❁

اوقات اپنے ذکر سے آباد کر



وَبِجِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً

اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ

وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً

اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما



حَتَّىٰ تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي (اِرَادَتِي)

حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار

كُلُّهَا وَرِدًّا وَاحِدًا ❁

تیرے حضور ورد قرار پائیں



وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا



اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے

يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيَّ مَعْوِي



اے میرے آقا اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے



يَا مَنْ اِلَيْهِ شَكَوْتُ اَحْوَالِي

اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب



قُوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي

میرے ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی

وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي

اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے



وَهَبْ لِيْ اِجْدًا فِىْ خَشِيَّتِكَ

اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں

وَالِدُوَامَ فِى الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ

اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں



حَتَّىٰ أَسْرَحَ إِلَيْكَ

تا کہ تیری بارگاہ

فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ

میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں



وَأَسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ (الْمُبَادِرِينَ) ❁

اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں

وَأَشْتَأِقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَأِقِينَ ❁

تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں



وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ

تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں

وَأَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ

اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں



وَاجْتَمِعْ فِي جِوَارِكَ

اور تیرے آستانہ پر مومنوں کے

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

ساتھ حاضر رہوں



اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ



اے معبود جو میرے لئے برائی کا ارادہ کرے تو اسکے لئے ایسا ہی کر

وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ



جو میرے ساتھ مکر کرے تو اسکے ساتھ بھی ایسا ہی کر



وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبِيدِكَ

مجھے اپنے بندوں میں قرار دے

نَصِيْبًا عِنْدَكَ ❁

جو نصیب میں بہتر ہیں



وَأَقْرَبِهِمْ مِّنْزِلَةً مِّنْكَ

جو منزلت میں تیرے قریب ہیں

وَأَخْصِهِمْ زُفَّةً لَّدَيْكَ

جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں



فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ

کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے

وَجَدُّ لِي بِجُودِكَ

بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر



وَأَعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ

بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما

وَأَحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ

بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر





وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا

میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما



وَقَلْبِي مَجْبِلًا مَتِيمًا

اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے



وَمَنْ عَلَىٰ بِحُسْنِ اجَابَتِكَ

میری دعا بخوبی قبول فرما مجھ پر احسان فرما

وَاقْلِنِي عَثْرَتِي * وَاغْفِرْ لِي زَلَّتِي

میرا گناہ معاف کر دے اور میری خطا بخش دے



فَانِكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ

کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے

وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ

اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا



وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ

اور قبولیت کی ضمانت دی

فَالَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي

پس اے پروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں



وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي 

اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں

فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي

تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما



وَبَلِّغْنِي مَنَائِي ❁

میری تمنائیں برلا

وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي ❁

اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ



وَ أَكْفِنِي شَرَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

میرے دشمن جو جنوں اور انسانوں سے ہیں

مِنْ أَعْدَائِي ❁

ان کے شر سے میری کفایت کر



يَا سَرِيعَ الرِّضَا

اے جلد راضی ہونے والے

إِغْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءُ

مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا



فَانِكَ

بے شک تو

فَعَالٌ لِّمَا تَشَاءُ

جو چاہے کرنے والا ہے



يَا مَنِ اسْمُهُ وَ دَوَاءُ

اے وہ جس کا نام دوا

وَ ذِكْرُهُ وَ شِفَاءُ

جس کا ذکر شفا



وَطَاعَتُهُ وَغِنَى

اور اطاعت تو نگری ہے

إِرْحَمَ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ

رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے



وَسِلاَحُهُ الْبُكَاءُ

اور جس کا ہتھیار گریہ ہے

يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ

اے نعمتیں پوری کرنے والے اے سختیاں دور کرنے والے



یا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ

اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کیلئے نور

یا عَالِمًا لَا يَعْلَمُ

اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا



صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

محمدؐ آلؑ محمدؐ پر رحمت فرما

وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ

مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے



وَصَلَّىٰ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

خدا اپنے رسولؐ پر


وَالْاَئِمَّةِ الْمِيَامِيْنَ مِنْ اٰلِهِ (اَهْلِهِ) ❁

اور بابرکت آئمہ پر سلام بھیجتا ہے




وَسَلَامٌ

بہت زیادہ سلام

تَسْلِيمًا [كَثِيرًا] 

وتحیات جو انکی آل^۴ میں سے ہیں





Negareh Asan



easy.reading.quran



negareh.asan

negarehasanpub



www.negareh-asan.ir

نگارش
آسان